



بنگلہ دیش کے خلاف ایک روزہ سیریز کے لیے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کا اعلان

- بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شامل قومی خواتین اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں
- سیریز کے میچز 2 اور 4 نومبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے

لاہور، 31 اکتوبر 2019ء:

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی چیف سلیکٹر عروج ممتاز نے بنگلہ دیش کے خلاف ایک روزہ سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین ٹیموں کے درمیان 2 ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز 2 سے 4 نومبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلی جائے گی۔

بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز اور اے سی سی ویمنز ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں قومی خواتین کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد ایک روزہ اسکواڈ کو حتمی شکل دی گئی۔ چیف سلیکٹر کی سربراہی میں کام کرنے والی قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی 3 رکنی سلیکشن کمیٹی میں اسماویہ اقبال اور مرینہ اقبال شامل ہیں۔

بنگلہ دیش کے خلاف کلین سوئپ کرنے والی 15 رکنی قومی ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ عائشہ ظفر، انعم امین اور صبا نذیر کی جگہ نشرہ سندھو، سیدہ عروب شاہ اور فاطمہ ثناء کو ایک روزہ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تینوں کرکٹرز سری لنکا میں منعقدہ اے سی سی ویمنز ٹیمز ایمرجنگ ایشیا کپ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھیں۔

بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے والی اسپنر سعدیہ اقبال کو ایک روزہ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے 3 میچوں میں 4 وکٹیں حاصل کیں۔

دونوں ایک روزہ میچوں میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی قیادت بسمعہ معروف کریں گی جبکہ سدرہ نواز وکٹ کیپنگ کے فرائض انجام دیں گی۔

ایک روزہ اسکواڈ:

بسمعہ معروف (کپتان)، عالیہ ریاض، سدرہ نواز، نابیدہ خان، ڈیانہ بیگ، جویریہ خان، سدرہ امین، نشرہ سندھو، عمیمہ سہیل، ارم جاوید، ثناء میر، فاطمہ ثناء، سعدیہ اقبال، کائنات امتیاز اور سیدہ عروب شاہ۔

ٹیم منیجمنٹ:

اقبال امام (عبوری ہیڈ کوچ)، اقبال احمد عامر (فیلڈنگ کوچ)، عائشہ جلیل (منیجر)، جمال حسین (ٹرینر)، ڈاکٹر رفعت اصغر گل (فزیو تھراپسٹ) اور زبیر احمد (اینالسٹ)۔

شیڈول:

2 نومبر: پہلا ایک روزہ میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور
4 نومبر: دوسرا ایک روزہ میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk 
@therealpcb 
@PakistanCricketBoard 
@PakistanCricketOfficial 
@therealpcb 

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4